




(ii) بچوں کے لیے دودھ پینا کیوں ضروری ہے؟

(iii) صحت مند زندگی کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟

(iv) باقاعدگی سے ورزش کرنے سے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟

### SECTION-III

(3) سوال نمبر 1۔ (الف): نیچے دی گئی تصویروں کو پہچانیں اور ان کے نام لکھیں۔



(5) (ب): دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پُر کریں۔

دانت	ہمہ خور	منہ ہاتھ	مناسب	صاف
------	---------	----------	-------	-----

(i) روزانہ \_\_\_\_\_ صاف کرنے چاہیے۔

(ii) \_\_\_\_\_ سے جسم تازہ دم ہو کر پھر سے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔

(iii) کھیل کود سے فارغ ہو کر \_\_\_\_\_ دھونا چاہیے۔

(iv) گوشت، پودے اور پھل کھانے والے جانور \_\_\_\_\_ کھلاتے ہیں۔

(v) کھانے کے برتن، اپنے کمرے اور ارد گرد کی جگہ کو \_\_\_\_\_ رکھنا ضروری ہے۔

کل نمبر: 25 واقفیت عامہ (سوئم) ٹیسٹ نمبر 6 وقت: 30 منٹ

چوتھا مہینہ، دوسرا ہفتہ، چھٹا دن **سلیبس:** دُہرائی ٹیسٹ سلیبس (دوسرا ہفتہ)

### SECTION-I

(5) سوال نمبر 1: درج ذیل میں سے درست جواب کے گرد دائرہ کا نشان لگائیں۔

(i) مختلف اقسام کے جاندار خوراک کھاتے ہیں:

(الف)	ایک جیسی	(ب)	مختلف	(ج)	متوازن	(د)	غیر متوازن
-------	----------	-----	-------	-----	--------	-----	------------

(ii) اچھی صحت کے لیے نہانا ضروری ہے:

(الف)	باقاعدگی سے	(ب)	کبھی کبھار	(ج)	ہفتہ وار	(د)	ہفتے میں دو مرتبہ
-------	-------------	-----	------------	-----	----------	-----	-------------------

(iii) دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے:

(الف)	پھل	(ب)	دودھ	(ج)	اناج	(د)	گوشت
-------	-----	-----	------	-----	------	-----	------

(iv) فطری ریچھ جانور ہے:

(الف)	سبزی خور	(ب)	ہمہ خور	(ج)	گوشت خور	(د)	یہ تمام
-------	----------	-----	---------	-----	----------	-----	---------

(v) خوراک کے استعمال کے لحاظ سے جانوروں کو \_\_\_\_\_ گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(الف)	تین	(ب)	چار	(ج)	پانچ	(د)	آٹھ
-------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

(4) (ب): کالم (الف) کو کالم (ب) سے ملائیں۔

کالم (الف)	کالم (ب)
بچوں کے لیے اہم ورزش ہے	گائے
سبزی خور کی ایک مثال ہے	ویڈیو گیم پر وقت گزارنا
اچھی صحت کے لیے ضروری ہے	تیراکی کرنا
صحت کے لیے نقصان دہ ہے	متوازن غذا

### SECTION-II

سوال نمبر 1۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ (4x2=8)

(i) تازہ اور خشک پھلوں کی چار چار مثالیں لکھیں۔

---



---